



## خوف کی نماز کا طریقہ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا

جابر بن عبد اللہ انصاری - رضی اللہ عنہما - فرماتا ہے میں نے خوف کی نماز پڑھتے وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھا، دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان حائل تھا ہم لوگوں نے نبی ﷺ کے پیچھے دو صفیں بنائیں نبی ﷺ نے تکبیر کی ہم نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ تکبیر کی پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ رکوع کیا پھر جب آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھایا پھر آپ ﷺ سجدے میں چلے گئے تو آپ ﷺ کے ساتھ صرف پہلی صف والوں نے سجدے کیا جب کہ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی جب نبی ﷺ اور پہلی صف کے لوگ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے سجدے کیا اور پھر کھڑے ہو گئے اس کے بعد پچھلی صف کے لوگ آگے آگئے اور اگلی صف کے لوگ پیچھے چلے گئے، پھر نبی ﷺ نے رکوع کیا اور ہم سب نے اٹھنے کی رکوع کیا پھر آپ ﷺ رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب بھی اٹھنے کی رکوع سے سر اٹھایا اور پھر آپ ﷺ سجدے میں چلے گئے تو آپ ﷺ کے ساتھ صرف پہلی صف والوں نے سجدے کیا - جو کہ پہلی پچھلی صف میں تھے - جب کہ دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی جب نبی ﷺ اور پہلی صف کے لوگ کھڑے ہوئے تو پچھلی صف والوں نے سجدے کیا اور تو اب پہلی صف والوں نے بھی سجدے کیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرا تو ہم سب نے اٹھنے کی سلام پھیرا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: جیسے آج کل تم ہمارے حفاظتی دستے اپنے امراء کے ساتھ کرتے ہیں (امام مسلم نے یہ روایت مکمل ذکر کی ہے)، امام بخاری نے اس کا کچھ حصہ ہی ذکر کیا ہے انہوں نے (جابر رضی اللہ عنہ) نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساتویں غزوہ 'ذات الرقاع' میں نماز خوف پڑھی ہے

[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث میں خوف کی نماز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ذکر کیا گیا ہے خوف کی نماز کے اس طریقہ میں دشمن قبلہ کی جانب ہے، آپ ﷺ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پہلی صف میں اور دوسرا دوسری صف میں ہے، پھر آپ ﷺ نے انہیں نماز پڑھائی، جس میں تمام لوگ ایک ساتھ تکبیر، ایک ساتھ قرأت، ایک ساتھ رکوع اور ایک ساتھ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے کرتے اور آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ والی صف بھی سجدے کرتی، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پچھلی صف جو کہ دشمن کے سامنے پہلے آ رہی تھی سجدے کرتی، جب کھڑے ہوئے تو برابری کی رعایت کرتے ہوئے پچھلی صف آگے اور اگلی صف پیچھے ہوجاتی کہ پوری نماز میں پہلی صف اپنی جگہ پر نہیں رہتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسا پہلی صف میں کیا، پھر تمام کو تشدد کروائی اور سب کے لیے سلام پھیرا اس حدیث میں نماز خوف کی یہ کیفیت تفصیل سے ذکر ہوئی، یہ واقع حال کے مناسبت سے تھی جو آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو درپیش تھی کہ دشمن قبلہ کی جانب ہے، وہ دشمن کو قیام اور رکوع کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور پچھلی جانب سے دشمن کے حملے سے محفوظ ہیں



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

